

## اہل خانہ کے لیے عمومی جائزہ

### بہتری کے علاقائی مرکز (REC) کیا ہے؟

ایک REC مرکز ایک محفوظ، ایک بہتری کی جگہ ہے جس کو نیو یارک شہر محکمہ تعلیم کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے تاکہ ہنگامی صورت میں سب سے پہلے مدد کرنے والے افراد (فرسٹ رسپانڈرز) کے لیے بچوں کی نگہداشت فراہم کی جا سکے جو COVID-19 سے نمٹنے کی کوشش کے لیے نہایت اہم ہیں۔

شہر میں 100 کے قریب RECs ہیں ان میں سے ہر ایک جائے وقوع تعلیم حاصل کرنے (ریموٹ لرننگ)، ہر روز تین وقت کا کھانا، بچوں کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ فنون، موسیقی، اور جسمانی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ RECs میں ابتدائی بچوں کی نگہداشت کے مراکز کے علاوہ K-12 مقامات شامل ہیں اور یہ ہر اسکول ضلع میں دستیاب ہیں۔

رسائی کے پہلے مرحلے میں طبی نگہداشت فراہم کنندگان، فرسٹ رسپانڈرز اور ذرائع نقل و حمل کے اہم ملازمین (ٹرانزیٹ ورکرز) شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ہم، اہم اضافی خدمات فراہم کنندگان اور پناہ گاہ میں رہنے والے بچوں کو شامل کریں گے۔

طبی طور پر ہمارے کمزور طلبا کے بہترین مفاد میں، ہم تجویز کرتے ہیں کہ یہ RECs میں شرکت نہ کریں، اور ہم طبی خدمات کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ صحت کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔

### RECs کب کھلیں گے؟

RECs بروز پیر، 23 مارچ، 2020 سے کام کرنے کا آغا کریں گے۔

### میں اپنے بچے کا اندراج کس طرح کروا سکتا ہوں؟

محکمہ تعلیم صاف اول کے ملازمین تک رسائی حاصل کر رہا ہے، بشمول فرسٹ رسپانڈرز اور طبی نگہداشت کے کارکنان، محکمہ صفائی کے ملازمین، شہر کی اہم ایجنسیوں کے عملے، اور شراکت دار تنظیموں/ ایجنسیوں کے، تاکہ ایک سہل آن لائن فارم کے ذریعے ان کے بچوں کا اندراج کیا جا سکے۔ ایک جائے وقوع کی پیشکش کے ساتھ اہل خانہ کے لیے ایک تخلیق کردہ جواب بھیجا جائے گا، اور ہم ان کی رہائش کے قریبی جغرافیہ کو ترجیح دیں گے۔

### کیا بچوں کو RECs میں اپنے ہمراہ کچھ لانے کی ضرورت ہے؟

آپ کے بچے کو ایک آلہ (مثلاً لاپ ٹاپ، ٹیبلیٹ یا فون) ساتھ لانا چاہیے تاکہ یہ اس کو ریموٹ لرننگ کے لیے استعمال کر سکیں، اگر ممکن ہو۔

### ایک عام دن کیسا ہو گا؟

کام کے اوقات کار صبح 7:30 تا شام 6:00

پروگرام کا عارضی جدول (شیڈول)

● صبح ریموٹ لرننگ کے مواقع

● دوپہر

□ فنون

□ جسمانی تعلیم اور کھیل (سہ پہر 3 تا شام 6 بجے)

### آپ کس طرح RECs کو محفوظ بنائیں گے؟

ہمارے طلبا اور عملے کے ارکان کا تحفظ ہماری ہماری اولین ترجیح رہے گی۔ RECs میں میل جول کو کم کرنے (سوشل ڈیسٹینسنگ) کے تمام قواعد کی پابندی کی جائے گی، بشمول افراد کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا اور کلاس رومز میں 9 سے کم طلبا رکھنے کے۔ جو کوئی بھی بیمار ہو ان کو گھر پر رہنا چاہیے۔ مقامات کی معمول میں صفائی کی جائے اور ان کو جراثیم سے پاک کیا جائے گا۔

### ان مقام کے عملوں میں کون شامل ہو گا؟

RECs کو محکمہ تعلیم (DOE) کے پُر عظم عملے کے ساتھ ساتھ ہماری برادری پر مبنی درجنوں تنظیموں کے شراکت داران کے ذریعے چلایا جائے گا۔ DOE کے متعدد ملازمین کے مشکور ہیں جنہوں نے ان مقامات کے عملے میں شامل ہونے کی پیشکش کی ہے۔

### اضافی سوالات ہیں؟

مزید معلومات کے لیے [schools.nyc.gov/recs](https://schools.nyc.gov/recs) پر جائیں۔